



Noble Quran القرآن الحكيم

Urdu Translation (Shah Abdul Qadir)

(حضرت شاہ عبدالقدیر) اردو ترجمہ بمعہ عربی

سورة المؤمنون بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

.1
قُدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ

کام نکال (یقیناً فلاح پا) گئے ایمان والے،

.2
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

جو اپنی نماز میں نوے (خشوش اختیار کرتے) ہیں،

.3
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْغُوْمَرِ ضُوَنَ

اور جو کنمی (بے ہودہ) بات پر دھیان نہیں کرتے۔

.4
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاتِ فَاعْلُونَ

اور جو زکوٰۃ دیا کرتے ہیں۔

.5
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ

اور جو اپنی شهوت کی جگہ تھامتے ہیں۔

.6

إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكُتُ أَيْمَانَهُمْ

مگر اپنی عورتوں پر، یا اپنے ہاتھ کے مال پر،

فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

سو ان پر نہیں الہنا (لامت)۔

.7

فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

پھر جو کوئی ڈھونڈے اسکے سوا، وہی ہیں حد سے بڑھنے والے۔

.8

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاغُونَ

اور جو اپنی امانتوں سے اور اپنے اقرار سے خبردار ہیں۔

.9

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوةِهِمْ يُحَافِظُونَ

اور جو اپنی نماز سے خبردار ہیں۔

.10

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

و، ہی ہیں میراث لینے والے،

.11

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

جو میراث پائیں گے باغِ ٹھنڈی چھاؤں کے، وہ اسی میں رہ پڑے (ہمیشہ کے لئے)۔

.12

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ

اور ہم نے بنایا ہے (پیدا کیا) آدمی، چون لی مٹی سے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ نُطْفَةً فِي قَرَابِ مَكِينٍ

پھر کھاس کو بوند کر کر (نطفہ)، ایک جھے ٹھہراو (محفوظ جگہ، رحم مادر) میں۔

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً

پھر بنائی اس بوند (نطفہ) سے (خون کی) پھٹکی،

فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً

پھر بنائی اس (خون کی) پھٹکی سے بوئی،

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا

پھر اس بوئی سے ہڈیاں،

فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا

پھر پہنایا ان ہڈیوں پر گوشت،

ثُمَّ أَنْشَأْنَاكُمْ حَلْقًا آخَرَ

پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو ایک نئی صورت میں،

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

سو بڑی برکت اللہ کی جو سب سے بہتر بنانے والا۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَّا تُوْلَوْنَ

پھر تم اس کے پیچے (بعد) مر دے گے۔

.16

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَّثُونَ

پھر تم قیامت کے دن کھڑے کئے جاؤ گے۔

.17

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَ كُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ

اور ہم نے بنائی ہیں تمہارے اوپر سات راہیں،

وَمَا كُنَّا عِنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ

اور ہم نہیں ہیں خلق (تخلیق) سے بے خبر۔

.18

^صوَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنْدَبْرَ فَأَسْكَنَاهُ فِي الْأَرْضِ

اور اُتارا ہم نے آسمان سے پانی ماپ کر (مخصوص مقدار میں)، پھر اسکو ٹھہر ادیاز میں میں،

وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ لَقَادِهِ وَنَوْنَ

اور ہم اس کو لے جاویں تو سکتے ہیں (قادر ہیں واپس لے جانے پر)۔

.19

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

پھر اگادیئے تم کو اس سے باغ کھجور اور انگور کے،

لَكُمْ فِيهَا فَوَّاكِهٌ كَثِيرٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

تم کو ان سے میوے ہیں اور انہی میں سے کھاتے ہو۔

.20

وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبَثُ بِاللَّهُنْ وَصِبْغٌ لِلْأَكْلِينَ

اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے، لے آتا ہے تیل، اور روٹی ڈبونا کھانے والوں کو۔

.21

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لِعِبْرَةً

اور تم کو چو پایوں میں دھیان کرنا ہے۔

نُسْقِيْكُمْ لِمَّا فِي بُطُولِهَا

پلاتے ہیں تم کو ان کے پیٹ کی چیز سے،

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

اور تم کو ان میں بہت فائدے ہیں، اور بعضوں کو کھاتے ہو،

.22

وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفَلَكِ تَحْمِلُونَ

اور ان پر اور کشتی پر لدے (سوار ہو کر) پھرتے ہو۔

.23

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ

اور ہم نے بھیجنوں کو اسکی قوم پاس، تو اس نے کہا:

يَا قَوْمٍ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

اے قوم بندگی کرو اللہ کی، تمہارا کوئی حاکم نہیں اسکے سوا،

أَفَلَا تَتَّقُونَ

کیا تم کوڈر نہیں؟

.24

فَقَالَ الْمُلَائِكَةُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ

تب بولے سردار جو منکرتھے، اسکی قوم کے،

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَفْضُلَ عَلَيْكُمْ

یہ کیا ہے، ایک آدمی ہے جیسے تم، چاہتا ہے کہ بڑائی کرے تم پر،

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً

اور اگر اللہ چاہتا تو اُتار تافر شتے۔

مَا سَمِعْتَ أَبْهَذَ أَنِّي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ

ہم نے یہ نہیں سنایا پنے اگلے باپ دادوں میں۔

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حَيْنٍ

.25 اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے کہ اسکو سودا (جنون) ہے، سوراہ دیکھو اسکی ایک وقت تک۔

قَالَ رَبِّيْ انْصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ

.26 بولاے رب! تو مدد کر میری کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلا یا۔

فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحْيَنَا

.27 پھر ہم نے حکم بھیجا اسکو کہ بنا کشی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم سے،

فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ^{لَا}

پھر جب پہنچے ہمارا حکم اور اُبلے تنور تو تُوڈال لے اس میں ہر چیز کا جوڑا دو ہرا،

وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ^{صَلَطْ}

اور اپنے گھر کے لوگ مگر جس کی قسمت میں آگے پڑ چکی بات (پہلے فیصلہ ہو چکا)۔

وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ

اور نہ کہہ مجھ سے ان ظالموں کے واسطے، ان کو ڈوبنا ہے۔

فَإِذَا سَتَوْيَتْ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِّ

اور پھر جب چڑھ چکے تو اور جو تیرے ساتھ ہے کشتنی پر۔ تو کہہ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعَثَنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

شکر اللہ کا جس نے چھڑایا ہم کو گنہگار لوگوں سے۔

وَقُلْ رَبِّ أَنْزَلَنِي مُنْزَلًا مُبَارَّةً وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزَلِينَ

اور کہہ اے رب! اتار مجھ کو برکت کا اتارنا، اور تو ہے بہتر اتارنے والا۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَعَبْتَلِينَ

اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرُنًا آخَرِينَ

پھر اٹھائی ہم نے اُن سے بیچھے، ایک سنگت اور (دوسرے دور کے لوگ)۔

فَأَنْرَسْلَنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ

پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول اُن میں کا،

أَنِ اَعْبُدُ وَاللَّهُمَّ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

کہ بندگی کرو اللہ کی، کوئی نہیں تمہارا حاکم اس کے سوا،

.28

.29

.30

.31

.32

أَفَلَا تَتَّقُونَ

پھر کیا تم کوڈر نہیں۔

وَقَالَ الْمُلَائِمُونَ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِلْقَاءِ الْآخِرَةِ

اور بولے سردار اسکی قوم کے، جو منکرتھے اور جھٹلاتے تھے آخرت کی ملاقات کو۔

وَأَنْزَلْنَا هُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

اور آرام دیا تھا ان کو ہم نے دنیا کے جیتے۔

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ

اور کچھ نہیں یہ ایک آدمی ہے جیسے تم،

يَا عُلُّ مِئَاتٍ كُلُّونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِئَاتَ شَرْبُونَ

کھاتا ہے جس قسم سے تم کھاتے ہو، اور پیتا ہے جس قسم سے تم پیتے ہو۔

وَلَئِنْ أَطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَخَاسِرُونَ

اور کبھی تم چلے کہے پر ایک آدمی کے اپنے برابر کے تو تم بیشک خراب ہوئے۔

أَيَعْدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتْمَّ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ لُخْرَجُونَ

کیا تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کہ تم کو نکالنا ہے (قبروں سے)۔

هَيَهَا تَهَيَّهَا تَلِمَاتُو عَدُونَ

کہاں ہو سکتا (نا ممکن) ہے، کہاں ہو سکتا (نا ممکن) ہے! جو تم کو وعدہ ملتا ہے؟

.33

.34

.35

.36

.37

إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَا ثُنَانَا الدُّنْيَا نَمْوُثُ وَنَحْيَا

اور کچھ نہیں، یہی جینا ہے ہمارا دنیا کا، مرتے ہیں اور جیتے ہیں،

وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ

اور ہم کو پھر اٹھنا نہیں۔

.38

إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ أَفْتَرَسِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ

اور کچھ نہیں یہ ایک مرد ہے۔ باندھ لایا اللہ پر جھوٹ، اور ہم اس کو نہیں مانتے والے۔

.39

قَالَ رَبِّ انْصُرْنِي بِمَا كَذَبْتُونِ

بولاے رب! میری مدد کر، انہوں نے مجھ کو جھٹلا�ا۔

.40

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيَصُسْخَنَ نَادِمِينَ

فرمایا۔ اب تھوڑے دنوں میں صبح کو (قریب ہے کہ) رہ جائیں پچھتا تے (نادم)۔

.41

فَأَخَذَنَّكُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُشَاءَ^ج

پھر کپڑاں کو چنگھاڑنے، تحقیق (وعدہ کے مطابق) پھر کر دیا ہم نے ان کو کوڑا (خش و خاک)۔

فَبَعْدًا إِلَّا لُقُومُ الظَّالِمِينَ

سو (رحمت سے) ذور ہو جائیں گے گنگار لوگ۔

.42

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ

پھر اٹھائیں ہم نے ان سے پچھے سنگتیں (دوسری قومیں)۔

.43

مَا تَسِيقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ

اور نہ پہلے جائے کوئی قوم اپنے وعدہ سے، نہ پیچھے رہیں۔

.44

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلًا تَنْزِيلٍ

پھر بھجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار،

كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً سُوْلُهَا كَذَبُوهُ

جہاں پہنچا کسی اُمت پاس انکار رسول، اس کو جھٹلا دیا۔

فَأَتَبْعَنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَا هُمْ أَحَادِيثَ

پھر چلاتے (بھجتے) گئے (ہلاک کر کے) ہم ایک کے پیچھے دوسری۔ اور کڑالا ان کو کہانیاں،

فَيَقُولُ الْقَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ

سودور ہو جائیں جو لوگ نہیں مانتے۔

.45

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اس کا بھائی ہارون، اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی سند۔

.46

إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلِئِيهِ

فرعون اور اس کے سرداروں پاس،

فَأَسْتَكْبِرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالَيْنَ

پھر بڑائی (تکبر) کرنے لگے اور تنہے وہ لوگ چڑھ رہے (سرکش)۔

.47

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرٍ يُنِيبُ مِثْلِنَا وَقَوْمٌ هُمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ

سوہ بولے کیا ہم مانیں گے ایک دو آدمیوں کو ہمارے برابر کے اور انکی قوم کرتی ہیں ہماری بندگی (غلامی)؟

.48

فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا امِنَ الْمُهْلَكِينَ

پھر جھٹلایا ان دونوں کو، پھر ہوئے کچپے (ہلاک ہونے) والوں میں۔

.49

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

اور ہم نے دی موسیٰ کو کتاب شاید وہ راہ (ہدایت) پائیں۔

.50

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهَ آيَةً

اور بنیا ہم نے مریم کا بیٹا۔ اور اس کی ماں ایک نشانی،

وَآوَيْنَا هُمَا إِلَى رَبِّوْقَيْذَاتِ قَرَاءِيْرَ وَمَعِينِ

اور ان کو ٹھکانا دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرا اور تھا اور پانی نظر۔

.51

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لُكْلُو امِنَ الطَّيْبَاتِ وَاعْمَلُوا اصْحَالًا

اے رسولو! کھاؤ ستری چیزیں اور کام کرو بھلا،

إِنِّي بِهِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهِمْ

جو کرتے ہو میں جانتا ہوں۔

.52

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ

اور یہ لوگ ہیں تمہارے دین کے، سب ایک دین پر،

وَأَنَّا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

اور میں ہوں تمہارا رب، سو مجھ سے ڈرتے رہو۔

فَتَقَطَّلُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبْرًا

پھر پھوٹ کر کر لیا اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے۔

كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

ہر فرقہ جوان کے پاس ہے اس پر ریجھ رہے ہیں۔

فَذَرْهُمْ فِي غَمَرَقِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ

سوچھوڑ دے ان کو اپنی بیہو شی میں ڈوبے ایک وقت تک۔

أَيَخَسِبُونَ أَنَّمَا تُمْدِدُهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَيَنْهَا

کیا خیال رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیئے جاتے ہیں مال اور اولاد،

ج
نُسَارِيْعُهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ

(گویا) دوڑ دوڑ ملاتے (ہم دیتے) ہیں ان کو بھلا سیاں؟

بَلْ لَا يَشْعُرُونَ

کوئی (ہرگز) نہیں ان کو بوجھ (سمجھ) نہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُونَ

البتہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اندیشہ رکھتے (لرزتے رہتے) ہیں۔

.53

.54

.55

.56

.57

.58

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ

اور جو لوگ اپنے رب کی باتیں یقین کرتے ہیں۔

.59

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے۔

.60

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجْلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَّاجِعُونَ

اور جو لوگ دیتے ہیں (اللہ کی راہ میں)،

جو (کچھ) دیتے ہیں اور ان کے دلوں میں ڈر ہے کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھر جانا (لوٹ کر جانا ہے)۔

.61

أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ

وہ دوڑ دوڑ لیتے ہیں بھلائیاں، اور وہ ان پر پہنچ سب سے آگے۔

.62

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اور ہم کسی پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر جو اس کی سماں (طااقت) ہے۔

وَلَدَّيْنَا كِتَابٌ يَنْطَقُ بِالْحُقْقِ

اور ہمارے پاس لکھا ہے جو بولتا ہے سچ۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اور ان پر ظلم نہ ہو گا۔

.63

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا

کوئی نہیں، ان کے دل بیہوش ہیں اس طرف سے۔

وَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ

اور ان کو اور کام لگے ہیں اس کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔

.64

حَتَّىٰ إِذَا أَخْذُنَا مُنْتَرِفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجِدُونَ

یہاں تک کہ جب پکڑیں گے ہم انکے آسودہ لوگوں کو آفت میں، تمہیں وہ لگیں گے چلانے۔

.65

لَا يَجِدُوا الْيَوْمَ إِنْكُمْ مِّثْلًا لَا تُنْصَرُونَ

مت چلاو! آج کے دن تم ہم سے چھڑائے نہ جاؤ گے۔

.66

قَدْ كَانَتْ آيَاتٍ تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِضُونَ

تم کو سنائی جاتیں میری آیتیں، تو تم ایڑیوں پر اٹھے بھاگتے تھے۔

.67

مُسْتَكْبِرِينَ بِإِسَامِرًا تَهْجِرُونَ

اس سے بڑائی (گھمنڈ) کر کر ایک کہانی والے کو چھوڑ کر چلے گئے۔

.68

أَفَلَمْ يَدْبَرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَالَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ

سو کیا دھیان نہیں کی یہ بات، یا آیا ہے ان پاس جونہ آیا تھا ان کے پہلے باپ دادوں پاس۔

.69

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَنَا فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ

یا پہنچانا نہیں انہوں نے اپنا پیغام لانے والا۔ سو اس کو اور پری سمجھتے ہیں؟

.70

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ

یا کہتے ہیں اس کو سودا (دیوانہ) ہے۔

بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ

کوئی نہیں وہ لا یا ہے ان کے پاس سچی بات، اور بہتوں کو سچی بات بُری لگتی ہے۔

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْحُكْمَ أَهُوَ أَهْمُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

اور اگر سچارب چلے ان کی خوشی پر تو خراب ہوں آسمان و زمین اور جو کوئی ان کے پیچے ہے۔

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ

کوئی نہیں، ہم نے پہنچائی ہے ان کو ان کی نصیحت، سو وہ اپنی نصیحت کو دھیان نہیں کرتے۔

صَلَوةً
أَمْ تَسْأَلُهُمْ حَرْجًا فَخَرَاجٌ هُنْ بِكَ خَيْرٌ

یاؤ ان سے مانگتا ہے کچھ حاصل (معاوضہ)؟ سو حاصل (صلہ) تیرے رب کا بہتر ہے،

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

اور وہ ہے بہتر روزی دینے والا۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ

اور تو تو بلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كَبُونَ

اور جو لوگ نہیں مانتے پچھلا (آخرت کا) گھر، راہ سے ٹیڑھے ہوئے ہیں۔

.71

.72

.73

.74

.75

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ صُرُّ لِلْجُوَافِي طُغْيَا نَهِمْ يَعْمَهُونَ

اور اگر ہم انکور حم کریں اور کھول دیں جو تکلیف ہے ان پر، مقرر (دبارہ) لگے جائیں اپنی شرارت میں بہکے۔

.76

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا أَسْتَكَانُوا الرَّبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ

اور ہم نے کپڑا تھا ان کو آفت میں۔ پھر نہ دبے اپنے رب کے آگے، اور نہیں گڑ گڑاتے۔

.77

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

یہاں تک کہ جب کھولیں گے ہم ان پر دروازہ ایک سخت آفت کا، تب اس میں اس کی آس ٹوٹے گی۔

.78

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ

اور اس نے بنادیئے تم کو کان اور آنکھیں اور دل۔

قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ

تم بہت تھوڑا حق مانتے (شکر گزار ہوتے) ہو۔

.79

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَ أَكْمَمِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

اور اسی نے تم کو بکھیر رکھا ہے زمین میں، اور اسی کی طرف جمع ہو کر جاؤ گے۔

.80

وَهُوَ الَّذِي يُجْبِي وَيُمْبِيْثُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

اور وہی ہے جلاتا اور مارتا۔ اور اسی کا کام ہے بلد نارات اور دن کا۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ

سو کیا تم کو بوجھ (سبجھ) نہیں؟

.81

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ

کوئی نہیں، یہ وہی کہتے ہیں جیسے کہہ چکے ہیں پہلے۔

.82

قَالُوا إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْغُوثُونَ

کہتے ہیں، کیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں، کیا ہم کو جلا (زندہ) اٹھانا ہے؟

.83

لَقَدْ عِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلٍ

وعدہ مل چکا ہم کو اور ہمارے باپ دادوں کو یہی پہلے سے،

إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ

اور کچھ نہیں یہ نقیں (کہانیاں) ہیں پہلوں کی۔

.84

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

تو کہہ کس کی ہے زمین اور جو کچھ اس کے بیچ ہے، بتاؤ اگر تم جانتے ہو؟

.85

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ

اب کہیں گے اللہ کو۔

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

تو کہہ، پھر تم سوچ نہیں کرتے؟

.86

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

تو کہہ کون ہے مالک سات آسمانوں کا۔ اور مالک اس بڑے تخت کا؟

.87

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ^ج

بِتَائِيسِ گے اللہ کو۔

قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ

تو کہہ پھر تم ڈر نہیں رکھتے؟

.88

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلْكُوتُ الْعَالَمِيْعُ^ج

تو کہہ، کس کے ہاتھ ہے حکومت ہر چیز کی؟

وَهُوَ يُحِبِّرُ وَلَا يُحِبَّ عَلَيْهِ^ج

اور وہ بچالیتا ہے اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

إِنْ كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ^ج

بتاباً اگر تم جانتے ہو۔

.89

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ^ج

اب بتائیں گے اللہ کو۔

قُلْ فَأَنِّيْ تُسْخِرُونَ

تو کہہ، پھر کہاں سے تم پر جادو (دھوکا) پڑ جاتا ہے۔

.90

بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ

کوئی نہیں، ہم نے ان کو پہنچایا سچ۔ اور وہ البتہ جھوٹے ہیں۔

.91

مَا أَتَخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلِيٍّ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ

اللہ نے کوئی بیٹا نہیں کیا اور نہ اس کے ساتھ کسی کا حکم چلے۔

إِذَا لَهُبَ كُلُّ إِلَهٍ مَا خَلَقَ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

یوں ہوتا تو لے جاتا ہر حکم والا اپنے بنائے کو اور جڑھ جاتا ایک پر ایک۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ

اللہ نرالا ہے (پاک ہے ان باقوں سے) ان کے بتانے سے۔

عَالِمٌ الْغَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشَرِّكُونَ

.92

جاننے والا چھپے اور کھلے کا، وہ بہت اوپر ہے اس سے جو یہ شریک بناتے ہیں۔

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيكِيْ مَا يُوعَدُونَ

.93

تو کہہ، اے رب! کبھی تود کھائے مجھ کو جوان کو وعدہ (عذاب) ملتا ہے۔

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

.94

تو اے رب مجھ کونہ کریو ان گنہگار لوگوں میں۔

وَإِنَّا عَلَى أَنْ نُرِيكَ مَا نِعْدُهُمْ لَقَادِرُونَ

.95

اور ہم کو قدرت ہے کہ تجھ کو دکھائیں (وہ عذاب) جوان کو وعدہ دیتے ہیں۔

أَدْفِعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ

.96

بُری بات کے جواب میں وہ کہہ جو بہتر ہے۔

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ

ہم خوب جانتے ہیں جو یہ بتاتے ہیں۔

وَقُلْ رَبِّي أَغُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

اور کہہ، اے رب! میں تیری پناہ چاہتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ سے۔

وَأَغُوذُ بِكَ رَبِّي أَنْ يَخْصُرُونَ

اور پناہ تیری چاہتا ہوں، اے رب! اس سے کہ میرے پاس آئیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّي ارْجُعُونِ

یہاں تک کہ جب پہچے ان میں کسی کو موت، کہے گا اے رب مجھ کو پھر بھیجو،

لَعَلَّيٰ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ

شاید کچھ میں بھلا کام کروں، اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا۔

كَلَّا

کوئی (ہرگز) نہیں،

إِنَّهَا كَلِمَةٌ حُكُومَةٌ هُوَ قَائِلُهَا

یہ (تو بس ایک) بات ہے کہ وہ کہتا ہے۔

وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبَعَّثُونَ

اور ان کے پیچے الٹکاؤ (برزخ) ہے جس دن تک اٹھائے جائیں۔

.97

.98

.99

.100

.101

فَإِذَا نُقْحَنَ فِي الصُّورِ فَلَا أُنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

پھر جس وقت پھونک مارے صور میں تو نہ ذاتیں (رشته ناتے) ہیں ان میں اُس دن، نہ آپس میں پوچھنا،

.102

فَمَنْ تَقْلِثُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

سو جس کی بھاری ہوئیں تو لیں (وزن)، وہی لوگ کام لے نکلے (فلاخ پائیں گے)۔

.103

وَمَنْ خَفَقَ ثُمَّ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ

اور جس کی بکلی ہوئیں تو لیں (وزن)، سو وہی ہیں جو ہار بیٹھے اپنی جان،

فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ

(اور ہمیشہ) دوزخ میں رہا کریں گے۔

.104

تَلْفُحٌ وَجْهَهُمُ الْأَنَاءُ وَهُمْ فِيهَا كَالْحُوَنَ

مارتی (جلساتی) ہے ان کے منہ پر آگ اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہیں۔

.105

أَلَمْ تَكُنْ آيَاتٍ نُّتَّلِي عَلَيْكُمْ

(ان سے کہا جائے گا) تم کو سناتے نہ تھے ہماری آیتیں؟

فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ

پھر تم ان کو جھلاتے تھے۔

.106

قَالُوا إِنَّا غَلَبْتُمْ عَلَيْنَا شَقُوتُنَا وَكُلَّاقُومًا ضَالِّينَ

بولے اے رب! زور کیا ہم پر ہماری کم بختی نے اور رہے ہم لوگ بہکے۔

.107

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ

اے رب! نکال لے ہم کو اس میں سے، اگر ہم پھر کریں تو ہم گنہگار۔

.108

قَالَ اخْسُنُوا فِيهَا وَلَا تُكْلِمُونَ

فرمایا، پڑے رہو پھٹکارے اس میں اور مجھ سے نہ بولو۔

.109

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عَبَادِي يَقُولُونَ

ایک فرقہ تھامیرے بندوں میں، جو کہتے تھے،

رَبَّنَا آمَّنَا فَأَغْفِرْ لَنَا وَإِنَّهُمْ بِالرَّاحِمِينَ

اے رب ہمارے! ہم یقین لائے، سو معاف کر ہم کو اور مہر (رحم) کر ہم پر،
اور توسب مہر (رحم) والوں سے بہتر ہے۔

.110

فَاتَّخُنْ تُمُّوْهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذُكْرِي

پھر تم نے ان کو ٹھٹھوں (مذاق) میں پکڑا، یہاں تک کہ بھولے ان کے پیچے میری یاد،

وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ

اور تم ان سے ہنستے رہے۔

.111

إِنِّي جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ

میں نے آج دیاں کو بدلہ ان کے سہنے (صبر) کا، کہ وہی ہیں مراد کو پہنچے۔

.112

قَالَ كُمْ لِيَثْمُ فِي الْأَرْضِ عَلَدَ سِنِينَ

فرمایا، تم کتنی دیر رہے زمین میں، برسوں کی گنتی سے؟

.113

قَالُوا لِيَثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِينَ

bole، ہم رہے ایک دن یا کچھ دن سے کم، تو پوچھ لے گنتی والوں سے۔

.114

قَالَ إِنَّ لِيَثْمُ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

فرمایا تم اس میں بہت نہیں تھوڑا ہی رہے اگر تم جانتے ہو۔

.115

أَفَخَسِبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْشًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

سو کیا خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھلینے کو، اور تم ہمارے پاس پھر (لوٹ کر) نہ آؤ گے؟

.116

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِيقُ

سو بہت اوپر ہے اللہ وہ بادشاہ سچا،

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

کوئی حاکم نہیں اس کے سوا۔ مالک اُس خاصے تحنت کا۔

.117

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا يُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ

اور جو کوئی پکارے اللہ کے ساتھ دوسرا حاکم، جس کی سند نہیں اس کے پاس،

سو اس کا حساب ہے اس کے رب کے نزدیک۔

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ

بیشک بھلا (فلاح) نہ پائیں گے منکر۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

.118

اور تو کہہ، اے رب! معاف کر اور مہر (رحم) کر، اور تو ہے بہتر سب مہر (رحم کرنے) والوں سے۔

© Copy Rights:

Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana
Lahore, Pakistan
www.quran4u.com